

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

قرآن مجید

مسترجعہ
عالیجناب حضرت مولانا محمد علی صاحب
مؤلف
بیان القرآن انگریزی ترجمہ القرآن وغیرہ

۱۷

آیہ ۱۲۲

(۲۱) سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ

مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِنَّا قَدَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي
 غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ①

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ
 إِلَّا اسْتَعْوَدُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ ②

لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأُوا التَّجْوِي ③
 الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ ④

أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ⑤
 قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑥
 بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ

أَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا
 بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ⑦

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا
 أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ⑧

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي
 إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ

إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ⑨
 وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَكْفُرُونَ

اللہ بے استار رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے
 لوگوں کے لیے اُن کا وقت حساب قریب آگیا ہے اور وہ غفلت
 میں منہ پھیرے ہوئے ہیں

کوئی نئی نصیحت اُن کے رب کی طرف سے اُن کے پاس نہیں آتی، مگر
 وہ اس کو سنتے ہیں حالانکہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں

اُن کے دل غافل ہوتے ہیں، اور جو ظالم ہیں وہ چھپ کر مشورہ کرتے
 ہیں کہ وہ کچھ نہیں مگر تمھاری طرح ایک انسان ہے تو کیا تم جادو کو

قبول کرتے ہو، حالانکہ تم دیکھتے ہو
 کسا میرا رب رہا ایک، بات کو جانتا ہے (جو) آسمانوں اور زمین

میں رکھی جاتی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔
 بلکہ کہتے ہیں (یہ) پریشان نواہیں ہیں بلکہ ریاہ، اس نے افترا کیا

بلکہ ریاہ، وہ شاعر ہے، سو ہمارے پاس کوئی نشان لائے جس
 طرح (کے نشانوں کے ساتھ) پہلوں کو بھیجا گیا

ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی، جسے ہم نے ہلاک کیا
 تو کیا یہ ایمان لائیں گے۔

اور تجھ سے پہلے ہم نے کسی کو نہیں بھیجا سوائے مردوں کے
 جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، پس اہل علم سے پوچھ لو

اگر تم نہیں جانتے
 اور اُن کے ہم نے ایسے جسم نہ بنائے تھے کہ کھانا نہ کھاتے

ہوں اور نہ وہ غیر متغیر تھے

پھر ہم نے اپنا وعدہ انھیں سچ کر دکھایا، سو انھیں ہم نے نجات دی اور جسے چاہا، اور زیادتی کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہم نے تمھاری طرف کتاب اتاری ہے جس میں تمھاری بڑائی ہے۔

تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے

اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو ظالم تھیں اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو اٹھا کھڑا کیا

پھر جب انھوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی، تو اس سے بھاگنے لگے

بھاگو نہیں اور اس کی طرف لوٹ جاؤ جس میں تم عیش کرتے تھے اور اپنے مکانوں کی طرف تاکم سے سوال کیا جائے انھوں نے کہا ہم پر افسوس! ہم ظالم تھے۔

سو یہی ان کی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انھیں کئے ہوئے رکھتے اور اٹھتے ہوئے (شعلے کی طرح) کر دیا

اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا

اگر ہم ارادہ کرتے کہ کھیل بنائیں تو اپنے پاس سے اسے بناتے ہم ایسا کرنے والے نہ تھے

بلکہ ہم حق کو باطل پر ڈالتے ہیں سو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے پس ناگماں وہ نابود ہو جاتا ہے اور تمھارے لیے اس کی دہر سے افسوس ہے جو تم بیان کرتے ہو

اور اسی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور جو

الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلِيدِينَ ﴿٨﴾
ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ
وَمَنْ نَشَاءُ وَاهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿٩﴾
لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ
فَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ
ظَالِمَةً ۖ وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾
فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ
مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ
فِيهِ ۖ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿١٣﴾
قَالُوا لَیْوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾
فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ
جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَبِیدِينَ ﴿١٥﴾

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ﴿١٦﴾

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلَافَ ذُنُودٍ
مِنْ لَدُنَّا ۖ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾
بَلْ نَقُذِرُ بِالْحَقِّ عَلَىٰ الْبَاطِلِ
فَیَدْمَعُهُ ۖ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۖ وَلَكُمْ
الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ

اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے توجہ نہیں کرتے
اور نہ تھکتے ہیں

رات اور دن تسبیح کرتے ہیں سست نہیں ہوتے

کیا انھوں نے زمین سے معبود بنا لیے ہیں ، جو پیدا
کرتے ہیں

اگر ان دونوں میں اللہ کے سوائے (کوئی اور) معبود ہوتا تو دونوں
بگڑ جاتے سوائے اللہ عرش کا رب اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں

اس سے پوچھا نہیں جاتا جو وہ کرتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے

کیا اس کے سوائے (اور) معبود بنا لیے ہیں - کہہ اپنی روش

دلیل لاؤ یہ اس کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہے اور اس

کا ذکر جو مجھ سے پہلے ہے ، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں

جانتے اس لیے وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں

اور تجھ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف ہم اپنی

وجہ کرتے تھے کہ میرے سوائے کوئی معبود نہیں ، سو میری

ہی عبادت کرو

اور کہتے ہیں رحمن نے بیٹا بنا لیا ، وہ پاک ہے بلکہ وہ منز

بندے ہیں -

وہ بات میں اس سے آگے نہیں بڑھتے اور اس کے حکم کے

مطابق وہ عمل کرتے ہیں

وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے

اور وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اسی کے لیے جسے وہ پسند کرے

اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٥﴾

يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿١٦﴾
أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ
هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿١٧﴾

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا
فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨﴾
لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾

أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إِلَهًا قُلْ
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا إِذْ ذُكِرَ مِنْ قَبْلِي
وَذُكِرَ مِن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ لَا الْحَقُّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٠﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ
إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢١﴾

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ
بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٢﴾
لَا يَسْئَلُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ
يَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى
وَهُم مِّنْ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٤﴾

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى
وَهُم مِّنْ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٥﴾

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى
وَهُم مِّنْ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٦﴾

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى
وَهُم مِّنْ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى
وَهُم مِّنْ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلٰهٌ مِّنْ
دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ

كَذٰلِكَ نَجْزِي الطّٰغِيْتِيْنَ ﴿٦٤﴾

اُولٰٓئِكَ يَدْرُوْنَ اَنَّ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦٥﴾

وَ جَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوٰسِيًّۙ اَنْ
تَمِيْدًا بِهَمٍّ ۙ وَ جَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا

سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٦﴾

وَ جَعَلْنَا السَّمٰءَ سَفَافًا مَّحْفُوْظًا ۙ

وَ هُمْ عَنِ اٰيٰتِهَآ مُعْرِضُوْنَ ﴿٦٧﴾

وَ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَيْلَ وَ النَّهَارَ

وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ۗ كُلٌّ فِي

فَلَكَ يَسْبَحُوْنَ ﴿٦٨﴾

وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۗ

اَفَاٰنِ مِتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ﴿٦٩﴾

كُلُّ نَفْسٍ ذٰرِبَةُ الْمَوْتِ وَ نَبَلُوْكُمْ

بِالشِّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾

وَ اِذَا سَاوَاكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ

يَتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُرُوْطًا هٰذَا الَّذِي

اور جو کوئی ان میں سے کہے کہ میں اس کے سوائے مجھ سے ہوں
تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے۔

اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔

کیا جو کافر ہیں وہ غور نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین
دونوں بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا۔

اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ، تو کیا

یہ نہیں مانتے

اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ انہیں لے کر

کانپے نہیں ، اور ہم نے اس میں کھلے رستے بنائے ،

تاکہ وہ راہ پائیں

اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کے

نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں

اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند

کو پیدا کیا سب (اپنے اپنے) فلک میں تیزی

سے چل رہے ہیں

اور تجھ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں

رکھی ، تو کیا اگر تو مر جائے تو یہ رہ جائیں گے

ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور کھرا کھوٹا لگ کرنے کے لیے ہم

تجھیں دکھ اور سکھ سے آزمانے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹانے جاؤ گے۔

اور جب کافر تجھے دیکھتے ہیں تیری ہنسی اڑاتے ہیں۔

کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے

اور وہ خود رحمن کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں۔

انسان جلدی کا پتلا بنایا گیا ہے میں تمہیں اپنے نشان دکھاؤں گا تو تم مجھ سے جلدی نہ کرو اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب (پورا) ہوگا ، اگر تم سچے ہو۔

کاش جو کافر ہیں ، اس وقت کو جانیں جب وہ اپنے منہوں سے آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ انہیں مدد دی جائے گی۔

بلکہ وہ (گھڑی) ان پر اچانک آجائے گی پس وہ ان کے ہوش کھو دے گی تو وہ اُسے ہٹانہ سکیں گے اور نہ انہیں حملت ملے گی۔ اور یقیناً تجھ سے پہلے رسولوں سے ہنسی کی گئی ، تو انہیں جو ان میں سے ہنسی کرتے تھے ، اسی نے آیا جس کی وہ ہنسی کرتے تھے

کہ ، کون رات کو اور دن کو رحمن سے تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر رہے ہیں

کیا ان کے معبود ہیں جو ہمارے مقابلے میں انہیں بچا لیں گے وہ آپ اپنی ندد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی حفاظت ہوگی

بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو سامان دیا۔

يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ ۗ وَهُمْ يَذْكُرُونَ
الرَّحْمَنِ هُمْ كُفِرُونَ ﴿۳۶﴾
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ لَّسَاوِرِكُمْ
الَّتِي فَلَا تَسْتَعِجَلُونَ ﴿۳۷﴾
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ
عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ
وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ ﴿۳۹﴾

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا
يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۴۰﴾
وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ
فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَأْسًا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۴۱﴾

قُلْ مَنْ يَكْفُرْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ
رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۴۲﴾

أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ تَشْعَبُهُمْ مِنْ دُونِنَا
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ
مِمَّنْ يُصْحَبُونَ ﴿۴۳﴾

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى

یہاں تک کہ اُن کی عمر لمبی ہو گئی، تو پھر کیا غور نہیں کرتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھساتے چلے آتے ہیں، تو کیا وہ غالب ہیں

کہ، میں تمہیں صرف وحی کے ساتھ ڈراتا ہوں اور بسرے پکار کو نہیں سنتے، جب اُنہیں ڈرایا جائے

اور اگر اُنہیں تیسرے رب کے عذاب کی ہوا بھی لگ جائے، تو کہیں گے اے انوس ہم پر ہم ہی ظالم تھے

اور ہم قیامت کے دن کے لیے انصاف کی میزبانوں کو قائم کرتے ہیں۔ پس کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی رحمت ہو گا ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں

اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور نصیحت متقیوں کے لیے دی

جو غیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس گھڑی کا اُن کو خوف ہے

اور یہ (قرآن) بابرکت ذکر ہے جسے ہم نے اتارا ہے تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو۔

اور ہم نے ہی ابراہیم کو پہلے سے اس کے (لائق حال)

ہدایت دی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے

جب اس نے اپنے بزرگ اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیں کیا

طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ
أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ
أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۴۱﴾

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا
يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا
يُنذَرُونَ ﴿۴۲﴾

وَلَيْنَ مَسْتَهْمُ نَفْحَةٍ مِّنْ عَذَابِ
رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۴۳﴾

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
فَلَا تظَلْمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا
وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴿۴۴﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ
وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۴۵﴾

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿۴۶﴾
وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ
لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۴۷﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن
قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ﴿۴۸﴾

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ

میں جن کی تعظیم میں تم لگے ہوئے ہو

انہوں نے کہا ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔
کسا، تم اور تمہارے بڑے کھل گراہی میں
تھے۔

انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا
تو کھیل کرنے والوں میں سے ہے۔

کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔
جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہی دینے
والوں میں سے ہوں۔

اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کو تکلیف پہنچاؤں گا،
اس کے بعد کہ تم پٹی پھیرتے ہوئے واپس چلے جاؤ گے
سوان کو بڑے ٹکڑے کر دیا، مگر ان کے بڑے کو رہنے دیا تاکہ
وہ اس کی طرف رجوع کریں

کننے لگے ہمارے مہبودوں سے کس نے یہ کام کیا ہے،
یقیناً وہ نالاموں میں سے ہے

لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا
جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔

کننے لگے، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، تاکہ
وہ گواہی دیں۔

کہا، اسے ابراہیم کیا تو نے ہمارے مہبودوں سے
یہ کام کیا ہے؟

الْمَثَابِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عِكْفُونَ ﴿٥٦﴾
قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبِدِينَ ﴿٥٧﴾
قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٨﴾

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ
الضَّالِّينَ ﴿٥٩﴾

قَالَ بَلْ تَرَبُّرُكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَ الْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى
ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٦٠﴾

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ
آنُ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٦١﴾

فَجَعَلَهُمْ جُنُودًا لِّلْآكِيدِ إِنَّهُمْ لَعَالِمُهُم
إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ
لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَدْعُهُمْ يُقَالُ
لَهُ إِبرَاهِيمُ ﴿٦٤﴾

قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى آعْيُنِ النَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦٥﴾

قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا
يَا بَرَاهِيمُ ﴿٦٦﴾

اس نے کہا بلکہ یہ کیا جس نے کیا، ان کا بڑا یہ ہے،
سوان سے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں
سو انہوں نے اپنے آپ کی طرف رجوع کیا اور کہنے لگے
تم خود ہی ظالم ہو

پھر اپنے سر ڈال کر اوندھے گر گئے (اور بولے) تو جانتا ہے
کہ یہ بات نہیں کرتے

کہا تو کیا اللہ کو چھوڑ کر تم اس کی عبادت کرتے ہو، جو
تھیں کچھ نفع نہیں دینا اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔
تف ہے تم پر اور اس پر جس کی تم اللہ کے سوائے عبادت کرتے
ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔

کہنے لگے اسے جلادو اور اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو، اگر
تم کچھ کرنے والے ہو۔

ہم نے کہا، اے آگ! ابراہیم پر ٹھنڈک
اور سلامتی ہو جا

اور انہوں نے اس سے بُرائی کرنی چاہی تو ہم نے انہی کو
نقصان اٹھانے والے کر دیا۔

اور ہم نے اُسے اور لوٹ کو اس سر زمین کی طرف بچا نکالا، جس
میں ہم نے قوموں کے لیے برکت رکھی تھی

اور ہم نے اسے اسحق دیا اور یعقوب پوتا اور سب کو
ہم نے نیک بنایا۔

اور ہم نے انھیں امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا
فَسَأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿۳۵﴾
فَرَجَعُوا اِلَى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا اِنَّكُمْ
اَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ﴿۳۶﴾

ثُمَّ نَكَسُوا عَلٰی رُءُوسِهِمْ لَقَدْ
عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿۳۷﴾

قَالَ اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا
يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿۳۸﴾
اِنَّ لَكُمْ وِلٰيٰمًا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۹﴾

قَالُوا حَرِّقُوْهُ وَانصُرُوْا الٰهَتَكُمْ اِنْ
كُنْتُمْ فاعِلِيْنَ ﴿۴۰﴾

قُلْنَا اِنَّا مَكْنُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا
عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ﴿۴۱﴾

وَاَمْرًا دُوًّا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ
الْاٰخِسْرِيْنَ ﴿۴۲﴾

وَنَجَّيْنٰهُ وَاَوْطَا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي
بَرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۳﴾

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً
وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿۴۴﴾

وَجَعَلْنٰهُمْ اٰيَةً يَّهْتَدُوْنَ بِاَمْرِنَا

کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیکیوں کے کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اور لوٹو کو بھی ہم نے فہم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جو ناپاک کام کرتی تھی، وہ بُرے لوگ (اور) نافرمان تھے۔

اور ہم نے اُسے اپنی رحمت میں داخل کیا وہ نیکیوں میں سے تھا۔

اور نوح کو جب (اس سے بھی) پہلے اس نے پکارا تو ہم نے اس کی (دُعا) قبول کی سوا سے اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ اور اسے اس قوم کے مقابل پر مدد دی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، وہ بُرے لوگ تھے۔ سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔

اور داؤد اور سلیمان کو جب وہ کھیتی کے معاملہ میں فیصلہ کرنے لگے جب اس میں لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے سو ہم نے وہ (فیصلہ) سلیمان کو سمجھا دیا اور سب کو ہم نے فہم اور علم دیا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو داؤد کے ساتھ کام میں لگا دیا، اور ہم ہی کرنے والے تھے

اور ہم نے اسے تمھارے لیے زبزہ بنا فی سکھائی، تاکہ تمھاری لڑائی میں تمھاری حفاظت کرے، تو کیا

وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيتَاءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿۷۶﴾
 وَ لَوْطًا اَتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْغَيْبٰتِ ؕ
 اِنَّهُمْ كَانُوۡا قَوْمًا سَوِيۡءًا فَسٰقِيۡنَ ﴿۷۷﴾
 وَاَدْخَلْنٰهُ فِى رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنْ الصّٰلِحِيۡنَ ﴿۷۸﴾

وَ نُوۡحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيۡمِ ﴿۷۹﴾
 وَ نَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِآيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوۡا قَوْمًا سَوِيۡءًا فَاَعْرَفْنٰهُمْ اٰجْمَعِيۡنَ ﴿۸۰﴾

وَاٰدَمَ وَّ سُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمِيۡنَ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَسَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ؕ وَ كَتٰۤا اِحْكَمَهُمْ شٰهِدِيۡنَ ﴿۸۱﴾
 فَقَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ؕ وَ كَلَّا اَتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ اِیْسِبِحْنَ وَا الطَّيْرَ طَوَّكُنَّ فَعِلٰیۡنَ ﴿۸۲﴾

وَ عَلَّمْنٰهُ صِنْعَةَ لُبُوۡسٍ لِّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْۢ بَاسِكُمْ ؕ فَهَلْ

تم شکر گزار ہو

أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿۵﴾

اور ہم نے سیماؤں کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو رکام میں لگا دیا
وہ اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے
برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں

وَأَسْلَمْنَا بِالْبُرْجِ عَصْفَةَ تَجْرِي
بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا
وَكَتَابَ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿۶﴾

اور کئی سرکش جو اس کے لیے غوط زنی کرتے اور اس کے
سوائے اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کی حفاظت
کرنے والے تھے

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَعُودُونَ لَهُ
وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا
لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿۷﴾

اور ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے
اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے
تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو اسے تکلیف تھی وہ دور کر دی۔

وَإِيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ
الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۸﴾

اور ہم نے اُسے اس کے اہل دے دیئے اور ان کی ش ان کے
ساتھ اور بھی دیئے یہ ہماری طرف رحمت تھی اور عباد کریں لوگ لیے یاد لانے کو ہے
اور اسمعیل اور ادیس اور ذوالکفل کو۔ سب صبر کرنے والوں
میں سے تھے

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ
ضُرِّهِ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ
رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَى لِلْعَبِيدِينَ ﴿۹﴾
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ
كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۰﴾

اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا۔ وہ نیکو کاروں میں
سے تھے۔

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ
الصَّالِحِينَ ﴿۱۱﴾

اور ذوالنون کو جب وہ قوم پر ناراض ہو کر چلا گیا، اس نے
گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، پس اس نے شکلات
میں پکارا کہ تیرے سوائے کوئی معبود نہیں تو پاک ہے میں
اپنے راویوں پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ
لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي
كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۲﴾

سو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی اور
اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمْ
وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾

اور زکریا کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، میرے رب مجھے
اکیلا نہ چھوڑو اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔

سو ہم نے اس کی (دعا) قبول کی اور اسے یحییٰ دیا اور اس کی
عورت کو اس کے لیے اچھا کر دیا وہ نیکوں میں جلدی کرتے
تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے
سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔

اور وہ جس نے اپنی عصمت کو محفوظ کیا، سو ہم نے اپنا کلام
اس میں پھونکا اور اُسے اور اس کے بیٹے کو قوموں کے
لیے نشان بنایا

بے شک یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے۔ اور میں
تمہارا رب ہوں سو میری عبادت کرو
اور انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سب
ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔

تو جو کوئی کچھ اچھے کام کرے اور وہ مومن ہو، تو اس کی
کوشش کی نافرمانی نہ ہوگی۔ اور ہم اس کے لیے
لکھ لیتے ہیں

اور اس بستی پر جسے ہم ہلاک کر دیں، لازم ہے کہ وہ
لوٹ کر نہ آئیں

یہاں تک کہ جب یا جوج اور ماجوج کھول دیے جائیں
گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے پھیل جائیں گے
اور سچا وعدہ قریب آجائے گا تو ناگاہ ان کی
آنکھیں جو کافر ہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی،

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي
فَرْدًا ۗ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۸۵﴾

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَ
أَصْلَحْنَا لَهُ ۖ وَرَوْجَهُ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا
يُسرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا
سُرْعًا ۗ وَرَهَبًا ۗ وَكَانُوا الْتَاخِشِعِينَ ﴿۸۶﴾
وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا
مِنْ شُرُوجِنَا ۖ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا
آيَةً ۖ لِلْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ
وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿۸۸﴾
وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۗ كُلُّ
إِلَيْنَا لَ رَاجِعُونَ ﴿۸۹﴾

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۗ
وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿۹۰﴾
وَ حَرَّمْنَا عَلَىٰ قَرِيئَةِ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ
لَا يَرْجِعُونَ ﴿۹۱﴾

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ
وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۹۲﴾
وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاذْأَاهِي
شَاطِئُهُ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ

ہم پر افسوس ہم اس سے غفلت میں رہے ، بلکہ ہم ظالم تھے
تم اور وہ چیزیں جن کی تم اللہ کے سوائے عبادت کرتے
ہو دوزخ کا اندھن ہو تم اس میں داخل ہو گے
اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے اور سب
اسی میں رہیں گے۔

ان کے لیے اس میں چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہ نہیں گے۔
جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے سے بھلائی آچکی ہے وہ
اس سے دور رکھے جائیں گے
وہ اس کی آہٹ (بھی) نہ نہیں گے اور وہ اس میں
جو ان کے دل چاہیں رہیں گے
سب سے بھاری گھبراہٹ انھیں عمگین نہ کرے گی اور فرشتے
ان سے ملیں گے۔ یہ وہ تمہارا دن ہے ، جس کا تمہیں
وعدہ دیا جاتا تھا

جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جس طرح تحریروں کا طوطا
لپیٹ لیا جاتا ہے جس طرح ہم نے پہلی پیدائش شروع کی اُسے پھر
بنائیں گے یہ ہم پر وعدہ ہے ضرور ہم رہ کر لے والے ہیں
اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا ، کہ
زمین کے وارث میرے صالح بندے
ہوں گے

یقیناً اس میں عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے پیغام ہے۔

اور ہم نے تجھے تمام قوموں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے

يَوْمَئِذٍ نَدْنُكُمْ فِي عَقْلِ مَنْ
هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٥﴾
إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿١٦﴾
لَوْ كَانَ هُوَ إِلَّا إِلَهًا مَا أَزْدَدُهَا
وَكُلٌّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿١٧﴾
لَهُمْ فِيهَا زُفَيْرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٨﴾
إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ
أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٩﴾
لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي
مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿٢٠﴾
لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ
وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ
الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٢١﴾
يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ
لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ
تُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا وَإِنَّا لَفَاعِلِينَ ﴿٢٢﴾
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ
الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ ﴿٢٣﴾

إِنَّ فِي هَذَا بَلَاغًا لِقَوْمٍ غَيْبِينَ ﴿٢٤﴾

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٥﴾

کہ میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا مہجود ایک ہی مہجود ہے
تو کیا تم (اللہ کے) فرماں بردار بنتے ہو۔

پھر اگر پھر جائیں تو کہہ دے میں نے تمہیں انصاف کی بات
کہہ کر خبردار کر دیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دور
ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے

وہ پکار کر کہی ہوئی بات کو جانتا ہے اور اُسے بھی جانتا
ہے جو تم چھپاتے ہو۔

اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور ایک فتنہ
تک فائدہ اٹھانا۔

(رسول نے) کہا، میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ اور پہلا
رب رحمن ہے جس سے ان باتوں پر مدد مانگی جاتی ہو جو تم بیان کرتے ہو

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ
وَاحِدٌ قَهْلٌ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۵﴾

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ
وَإِنْ أَدْرَيْتُمْ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا
تُوعَدُونَ ﴿۱۶﴾

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ
يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿۱۷﴾

وَإِنْ أَدْرَيْتُمْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ
وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۸﴾

فَلِربِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا
ٱللَّهُ الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿۱۹﴾

سُورَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ (۲۲)

الأنعام ۶۸

الأنعام ۶۸

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے
لے لوگو! اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو اس گھڑی کا
زلزلہ ایک بڑی چیز ہے

جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی ربد جو اس
ہو کر، اسے چھوڑ دے گی جسے دودھ پلاتی تھی اور ہر حمل والی
اپنا حمل ڈال دے گی اور تو لوگوں کو متوالے دیکھے گا، حالانکہ
وہ متوالے نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ کا عذاب
سخت ہے

اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو علم کے بغیر اللہ کے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كُمْ إِنَّ
زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿۱﴾
يَوْمَ تَرُودُنَّهَا تُدْحَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ
عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ
حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا
هُم بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ
شَدِيدٌ ﴿۲﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ

عَلِمَ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝
 كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهٗ
 يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ
 الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ
 مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن
 مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ
 لِّبَيِّنٍ لَّكُمْ وَ نُقِذُ فِي الْأَرْحَامِ مَا
 نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ
 طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُوًا أَشَدَّكُمْ وَ مِنكُمْ
 مَّن يُتَوَتَّىٰ وَ مِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَذَلِّ
 الْعُسرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عَلْمِ شَيْعًا
 وَ تَدْرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا
 عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَّتْ وَ أَنتَبَتْ
 مِّن كُلِّ شَرَاوِجٍ بِهَيْجٍ ۝

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي
 الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
 وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا
 وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ۝
 وَ مَن النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ
 عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ۝
 ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ط

بارے میں جھگڑتا ہے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔
 اس کی نسبت لکھا جا چکا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بناتا ہے وہ اسے گمراہ کر
 دیتا ہے اور اسے جلتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے جاتا ہے
 اسے لوگو! اگر تمہیں جی اٹھنے میں شک ہے، تو
 (غور کرو کہ) ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ
 سے، پھر لوتھڑے سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے
 جو کبھی پورا بن جاتا ہے اور کبھی ادھورا رہتا ہے تاکہ تمہارے
 لیے کھول کر بیان کر دیں اور ہم جو چاہتے ہیں رحموں میں ایک مقررہ
 وقت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں پھر
 تمہیں بڑھاتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں سے
 کوئی ایسا ہے جو وفات پا جاتا ہے اور کوئی تم میں سے وہ ہے جو
 نئی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ علم حاصل کر نیکی بعد اسے کچھ علم دے
 اور تو زمین کو بے جس پڑی دیکھتا ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی
 اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما
 روئیدگی اُگاتی ہے

یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور کہ وہی مردوں کو زندہ
 کرتا ہے اور کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے
 اور کہ وہ گھڑی آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ کہ اللہ
 انھیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔

اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے
 حالانکہ نہ علم رکھتا ہے اور نہ ہدایت اور نہ روشنی دینے والی کتاب۔
 اپنی کروٹ موڑ کر تاکہ اللہ کی راہ سے ہٹا دے اس کے لیے

لَهُ فِي الدُّنْيَا حِزْمٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ⑩

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدَاكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ
لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ⑪

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى
حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ
بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ
عَلَى وُجْهِهِ فَخَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ
ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑫

يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُ
وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ⑬
يَدْعُوا لِمَن صَرَفَهُمْ عَنْ قَفْعِهِ
لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَ لَيْسَ الْعَشِيرُ ⑭

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ⑮
مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنْصُرَهُ اللَّهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ
إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ
يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيطُ ⑯

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ
يَهْدِي مَن يُرِيدُ ⑰

لِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

دنیا میں رُسوائی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن جلنے کا
عذاب چکھائیں گے

یہ اس کی وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ
بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کفار پر رہ کر اللہ کی عبادت
کرتا ہے سو اگر اسے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے
اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے منہ پر لٹا پھر جاتا ہے۔
دنیا اور آخرت میں گھاٹے میں رہا۔ یہی کھلا
گھاتا ہے

اللہ کو چھوڑ کر اسے پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان دے سکتا ہے
اور نہ اسے نفع پہنچا سکتا ہے، یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے۔
اُسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب تر ہے۔
کیا ہی بُرا دوست اور کیا ہی بُرا رفیق ہے

اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں باغوں میں
داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اللہ جو
ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔

بسے یہ خیال ہے کہ اللہ اس (رسول) کی دنیا اور آخرت میں مدد
نہیں کرے گا، تو چاہیئے کہ وہ اپنے آپ کو کسی ذریعہ سے
آسمان پر لے جائے پھر اسے کاٹ دے پھر دیکھے کہ کیا اس
کی تدبیر اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اسے غصہ میں لاتی ہے

اور اسی طرح ہم نے اسے اتارا رکھ کھلی آیتیں (ہیں) اور اللہ جسے
چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

جو ایمان لائے اور وہ جو بیوادی ہیں اور صابانی اور

وَالصَّيِّئِينَ وَالنَّاصِرِينَ وَالْمُجْرِمِينَ وَاللَّذِينَ
 أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۱۷﴾
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّجَرُ
 وَالنَّعْمَةُ وَالشُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ
 وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَ
 كَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَ مَن
 يَهِنَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ
 اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿۱۸﴾

هَذَانِ حَصِّنَ احْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ
 فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ
 مِّنْ سَائِرِ صَبْ مِنْ قَوْقِ رُءُوسِهِمْ
 الْحَمِيمُ ﴿۱۹﴾
 يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿۲۰﴾
 وَ لَهُمْ مَقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ﴿۲۱﴾
 كَلِمًا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ
 غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَ ذُوقُوا
 عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿۲۲﴾

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
 عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ

نصری اور مجوس اور جو مشرک ہیں ، اللہ ان کے
 درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اللہ ہر
 چیز پر گواہ ہے

کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ کی ہی فرمانبرداری کرتے ہیں
 جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اور سورج
 اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور
 جاندار اور بہت سے لوگ (بھی) اور بہت (ایسے ہیں کہ)
 عذاب ان پر لازم ہو گیا۔ اور جسے اللہ ذلیل کرے
 تو کوئی اسے عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو
 چاہتا ہے کرتا ہے

یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے
 میں جھگڑا کیا، سو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع
 کیے گئے ہیں ان کے سروں کے اوپر کھوتا ہوا پانی ڈالا
 جائے گا

اس سے جو کچھ ان کے بیٹوں میں ہے اور کھالیں گل جائیں گی
 اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے
 جب کبھی ارادہ کریں گے کہ اس سے غم کے مارے نکل
 جائیں ، اس میں لوٹائے جائیں گے اور (کس جائے گا)
 جلنے کا عذاب چکھو

اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے
 ہیں ، باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں
 بہتی ہیں۔ ان میں انہیں سونے کے کڑے اور موتی پہنائے

جائیں گے اور اُن کا لباس اُن میں رشیم ہوگا۔

اور اُن کو پاک بات کی طرف ہدایت کی گئی اور انہیں اس راہ کی ہدایت کی گئی ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے (خواہ) اس میں رہنے والا رہو) اور (خواہ) باہر آجیو والا، اور جو کوئی اس میں ظلم کے ساتھ نا انصافی کا ارادہ کرے ہم اسے دروزناک عذاب کا مزہ اچکھائیں گے

اور جب ہم نے ابراہیمؑ کے لیے خانہ رکعبہ کی جگہ مقرر کر دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع (اور سجدہ کرنے والوں) کے لیے پاک کر اور لوگوں میں حج کے لیے پیکار دے، وہ تیری طرف آئیں گے (کچھ) پیدل اور (کچھ) ہر طرح کی دُبی (سواروں) پر، جو ہر دُور کے رستے سے آتی ہوں گی

تا کہ اپنے فائدہ کی جگہوں پر حاضر ہوں — اور مقرر دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر اس پر کریں، جو اس نے انہیں چارپائے جانور دیئے ہیں۔ سو اُن سے کھاؤ اور تکلیف والے محتاج کو کھلاؤ

پھر چاہیے کہ اپنی میل کچیل تاریں اور اپنی منتوں کو پورا کریں اور تہم گھر کا طواف کریں

یہ (یوں ہو) اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ

أَسَاوِرًا مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤًا وَلِيَاسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿۱۷﴾

وَهُدًى وَ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَ هُدًى وَ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴿۱۸﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَ الْبَادِ وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يَظْلِمُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّهُ مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ ﴿۱۹﴾

وَ إِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقَائِمِينَ وَ الرَّكْعَةِ السُّجُودِ ﴿۲۰﴾ وَ آذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿۲۱﴾

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يُذَكِّرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَيْهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿۲۲﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُتَوَأْنُوا دُورَهُمْ وَ لِيُطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿۲۳﴾

ذَلِكَ ۗ وَ مَنْ يُعْظِمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ

اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے چار پائے حلال ہیں سوائے اس کے جو تم پر پڑھا جاتا ہے پس تمہوں کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹ بات سے بچو

ایک اللہ کے ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے اور جو کوئی اللہ کے ساتھ راو کو شریک بنائے تو گویا وہ بلندی سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا سٹاڑا کر دُور کے مکان میں پھینک دے گی
یہ (اسی طرح ہے)، اور جو کوئی اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوے سے ہے

تمہارے لیے ان میں ایک مقررہ وقت تک فائدے ہیں، پھر ان کی آخری منزل قدیم گھر کی طرف ہے
اور ہر قوم کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے تاکہ اللہ کا نام اس پر یاد کریں جو اس نے انھیں چار پائے جانوروں سے دیئے ہیں۔ پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے سو اسی کے فرماں بردار ہو جاؤ اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے
وہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف محسوس کرتے ہیں اور اس پر صبر کرنے والے جو انھیں (تکلیف) پہنچتی ہے اور نماز کے قائم کرنے والے اور وہ اس جو ہم نے انھیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں

اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نشانوں سے ٹھیرا یا ہے تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو اللہ کا نام ان پر یاد کرو جب وہ قطار باندھے ہوئے (ہوں) پھر جب وہ پہلو کے بل پر گر پڑیں، تو ان سے کھاؤ اور سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے کو کھلاؤ۔ اسی

خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ ط وَ اُحِلَّتْ لَكُمْ
الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٦٠﴾

حَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ط وَ مَنْ
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَانَ تَاَخَرًا مِنَ السَّمَاءِ
فَتَخَطَفَهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوَى بِه الرِّيحُ
فِي مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿٦١﴾

ذٰلِكَ ؕ وَ مَنْ يُعْظَمْ شَعَابِرَ اللّٰهِ فَاَلْهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿٦٢﴾

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٦٣﴾

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّدِكْرِ وَا
اَسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَيْمَتَةٍ
الْاَنْعَامِ قَالَهُمْ اِلٰهُ وَاِحِدٌ فَلَهُ
اَسْلِمُوْا ط وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٤﴾

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوْبُهُمْ
وَ الضَّالِّيْنَ عَلٰى مَا اَصَابَهُمْ وَ الْمُؤْمِنِي
الصَّلٰوةِ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٦٥﴾

وَ الْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَابِرِ اللّٰهِ
لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ؕ قَالِيْ كُرُوْا اَسْمَ اللّٰهِ
عَلَيْهَا صَوَاقٍ ؕ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا
فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اطْعَمُوْا الْقَائِلَةَ وَ الْمُعْتَرِطَ

طرح ہم نے انہیں تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔
 نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون،
 لیکن اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح
 اس نے انہیں تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی
 کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی اور احسان کر نیوالوں کو خوشخبری دو۔
 اللہ مومنوں سے (دشمنوں کو) ہٹاتا رہتا ہے۔ اللہ کسی دغا باز،
 ناشکر گزار کو پسند نہیں کرتا

ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی ہے، اس لیے کہ
 ان پر ظلم کیا گیا اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے
 وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے، صرف
 اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں
 کو ایک دوسرے کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو یقیناً راہبوں
 کی کوٹھریاں اور گرجے اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا
 نام بہت لیا جاتا ہے گرا دی جاتیں۔

اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس (کے دین) کی مدد
 کرتا ہے یقیناً اللہ طاقتور غالب ہے

وہ جنہیں اگر ہم زمین میں طاقت دیں تو وہ نسا کو قائم
 کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اچھی باتوں کا حکم کریں گے
 اور بُری باتوں سے روکیں گے۔ اور سب کاموں کا انجام
 اللہ کے اختیار میں ہی ہے

اگر تجھے جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عا
 اور ثمود نے جھٹلایا۔

كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٠﴾
 لَنْ يَنْتَظِرَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا
 وَلَكِنْ يَنْتَظِرُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ
 سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
 هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْحَسَنِينَ ﴿٥١﴾

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٥٢﴾

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا
 وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٥٣﴾
 الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ
 حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ ۗ وَكَوْ
 لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
 لَهْدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ
 وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
 وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ
 اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٤﴾

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ
 أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا
 بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ
 وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٥٥﴾

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ
 قَوْمُ نُوحٍ وَقَوْمُ عَادٍ وَثَمُودٌ ﴿٥٦﴾

وَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ ﴿۳۷﴾ اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم نے۔

اور مدین کے رہنے والوں نے اور موسیٰ (رحمی) جھٹلایا گیا سو میں نے کافروں کو حملت دی پھر انھیں پکڑا۔ پس میرا انکار (ان پر) کیا ہوا

سو کتنی بستیاں ہیں جنھیں ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھیں۔ سو وہ خالی ہیں اپنی چھتوں پر اور کتنے بیکار کنوئیں اور کپے محل (دیران) ہیں

تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں۔ پس ان کے دل بھوتے جن سے وہ سمجھتے، یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے۔

کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں

اور تجھ سے عذاب جلد مانگتے ہیں اور اللہ اپنے وعدہ کا خلاف ہرگز نہیں کرے گا اور ایک دن تمہارے رب کے نزدیک ایک ہزار سال کے برابر ہے جو تم کہتے ہو

اور کتنی بستیاں ہیں جنھیں میں نے حملت دی اور وہ ظالم تھیں پھر میں نے انھیں پکڑا اور میری طرف ہی انجام کار آنا ہے۔ کہ اے لوگو میں صرف تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔

پس جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

اور جو ہماری آیتوں کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں

اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ نبی

وَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ ﴿۳۷﴾
وَ أَصْحَابُ مَدْيَنَ وَ كَذَّبَ مُوسَىٰ
فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۳۸﴾

فَكَأَيُّنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا
وَ بَيْتٌ مُعْتَلٍ وَ قَصْرِ مَشِيدٍ ﴿۳۹﴾

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ
وَ لَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿۴۰﴾

وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَ كَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ
كَأَن يَسَنَةً يَمَّا تَعُدُّونَ ﴿۴۱﴾

وَ كَأَيُّنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ
ثُمَّ أَخَذْتَهَا وَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿۴۲﴾

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۴۳﴾

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۴۴﴾

وَ الَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۴۵﴾

وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ

وَلَا تَجِبِي إِلَّا إِذَا تَمَّتْ أَلْفَى الشَّيْطَانِ
فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَسْخُرُ اللَّهُ مَا يُلْقَى
الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكَمُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ
اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۷﴾

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿۵۸﴾
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ
لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ
آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۹﴾

وَلَا يَزَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَّةٍ
مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً
أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ ﴿۶۰﴾
الَّذِينَ يَوْمِنَالَهُ لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ
فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي
حَبْلِ النَّعِيمِ ﴿۶۱﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَإُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۶۲﴾

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ
قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا
حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۶۳﴾

مگر جب اس نے آرزو کی شیطان نے اس کی آرزو
کے بارے میں دوسوہ اندازی کی پس اللہ اسے ٹھادتا
ہے جو شیطان دوسوہ اندازی کرتا ہے۔ پھر اللہ اپنی آیتوں کو
مضبوط کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے
تاکہ وہ اسے جو شیطان دوسوہ اندازی کرتا ہے ان لوگوں کے
لیے آزمائش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے
دل سخت ہیں اور بلاشبہ عالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔
اور تاکہ وہ جنہیں علم دیا گیا ہے جان لیں کہ وہ تیرے رب کی طرف
سے حق ہے پس وہ اس پر ایمان لائیں پس ان کے دل اس کے
لیے نرم ہو جائیں اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے بعد سے
رستہ کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔

اور جو کافر ہیں وہ اس کے بارے میں شک میں ہی رہیں گے
یہاں تک کہ وہ گھڑی ان پر اچانک آجائے یا ان پر تباہ کرنے
والے دن کا عذاب آجائے

بادشاہت اس دن اللہ کے لیے ہی ہوگی، وہ ان کے درمیان
فیصلہ کرے گا، پس جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں۔
وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔

اور جو کافر ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو ان کے لیے
ذیل کرنے والا عذاب ہے۔

اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل ہو گئے یا مر
گئے، اللہ انہیں اچھا رزق دے گا۔ اور اللہ یقیناً
بہترین رزق دینے والا ہے

وہ ضرور انھیں ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے اور اللہ یقیناً جاننے والا بڑا بار ہے۔

یہ (اسی طرح ہوگا) اور جو اس کی شکل سزا دے جو اسے ایذا دی گئی اور اس پر زیادتی ہوئی ہو، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا یقیناً اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے

یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

یہ اس لیے کہ اللہ ہی سچ ہے اور کہ جو کچھ اس کے سوائے پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور کہ اللہ بلند شان والا بڑا ہے

کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ بادل سے پانی اتارتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ اللہ باریک باتوں کا جاننے والا خبر دار ہے۔

اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بلاشبہ اللہ بے نیاز تعریف کیا گیا ہے۔

کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور کشتی کو درجی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے اور وہ مینہ کو روکتا ہے کہ سوائے اس کی اجازت کے زمین پر پڑے۔ یقیناً اللہ لوگوں پر مہربان رحم کرنے والا ہے

اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر

لَيْدُ خَلْقَهُمْ مُدَّ خَلَا يُرْضَوْنَهُ ط وَإِنَّ
اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿۵﴾

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّبَ
بِهِ ثُمَّ بُعِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصَرِّتَهُ اللَّهُ ط إِنَّ
اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿۶﴾

ذَلِكَ يَا أَيُّهَا اللَّهُ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ
وَ يُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ آتَى اللَّهُ
سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۷﴾

ذَلِكَ يَا أَيُّهَا اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ
أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۸﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ط إِنَّ
اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۹﴾

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ ط
وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ ﴿۱۰﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي
الْأَرْضِ وَ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِأَمْرِهِ ط وَ يُسَبِّحُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ
عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط إِنَّ اللَّهَ
بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ ﴿۱۱﴾

وَ هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ دَرْتُمْ يُمِيتُكُمْ

دُونَ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ
اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ
شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ طَضَعَفَ
الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿۷۶﴾

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ
لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۷۷﴾

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا
وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۷۸﴾
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۷۹﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۸۰﴾

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ
اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ طَمَلَةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ
هُوَ سِسْكُمْ الْمُسْلِمِينَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِي
هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ
فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۸۱﴾

پیدا نہیں کر سکتے ، گو وہ سب اس کے لیے اکٹھے
ہو جائیں۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے
تو اُسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب
دونوں کمزور ہیں

انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جس طرح اس کے پہچاننے کا حق
رہتا، یقیناً اللہ طاقتور غالب ہے۔

اللہ فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے ، اور انسانوں
میں سے۔ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے

وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے
اور اللہ کی طرف ہی سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو،
اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو،
تاکہ تم کامیاب ہو۔

اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو، جو اس کی راہ میں
کوشش کا حق ہے، اس نے تمہیں چُن لیا اور دین کے معاملہ

میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، تمہارے باپ
ابراہیم کا مذہب، اس نے تمہارا نام پہلے سے

اور اس (قرآن) میں بھی مُسلم رکھا۔ تاکہ رسول
تمہارا پیش رو ہو اور تم لوگوں کے پیش رو بنو،

سو نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور اللہ کو مضبوط پکڑو
وہ تمہارا آقا ہے، سو کیا ہی اچھا آقا ہے،

اور کیا ہی اچھا مددگار ہے